

# گہائے عقیدت

(آزاد الملوی)

یہ نظم اس وقت لکھی گئی جب حضرت میاں عبدالوہاب صاحب منظرہ العالی ہتھم مدرسہ کی والدہ محترمہ اپنے دو پوتوں کے ساتھ حج بیت اللہ سے واپس تشریف لائیں۔

پہلو میں انبساط کا طوفان لئے ہوئے  
دل میں فروغِ کعبہ زرداں لئے ہوئے  
آج ہے کوئی بادِ عرفان لئے ہوئے  
اے تشنگانِ بادِ یثرب ہو خوش کہ آج  
ہر ہر نفس ہے بوئے گلستاں لئے ہوئے  
اُف رے یہ مشکِ بیزیِ بادِ مدینہ کہ  
نظریں ہیں آج نورِ درختاں لئے ہوئے  
الذکرے جمالِ مدینہ کی دل کشی  
دل ہے فروغِ طور کا سماں لئے ہوئے  
سرستِ انبساط نہ ہوں کیوں وہ آج جب  
آتا ہے جامِ ساقیِ دوراں لئے ہوئے  
پہلو میں انبساط کا طوفان لئے ہوئے  
زندانِ قدحِ خوار نہ کیوں خوش ہوں آج جب  
آئے ہیں حج سے لوٹ کے نور و شفیع آج  
دل میں فروغِ کعبہ زرداں لئے ہوئے  
ہر ہر نظر ہے کیف کا سماں لئے ہوئے  
دادی بھی آ رہی ہیں بصدِ ترک و احتشام  
رعنائی و جمال کا طوفان لئے ہوئے  
الذکرے یہ آنے کا فرحتِ اثر سماں  
آئی ہے آج گلشنِ ملت میں فصلِ گل

آزاد ہوتی جاتی ہے ہر آنکھ فریش راہ  
پہلو میں اپنے دید کا ارماں لئے ہوئے  
لہ ذرا مرد و شفیع احمد حضرت  
میاں صاحب کے پوتے۔

## قوتِ حافظہ اور دانتوں کی مضبوطی کیلئے قرآنی عمل

ریاست رامپور سے دو بزرگوں نے قرآن مجید کی آیتوں کے دو عمل لکھ کر بھیجے ہیں جن کے متعلق ان کا بیان ہے کہ ہم ان وردوں کا ساہا سال سے تجربہ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب نظریں محدث بھی ان پر عمل کر کے بہرہ مند ہوں اور تپلنے والوں کو دعا خیر سے یاد کریں۔ (ایڈیٹر)

(۱) سورہ فاتحہ (یعنی سورہ الحمد) کی ایک تسبیح (یعنی سو مرتبہ) رات کو سوتے وقت پڑھ کر سینہ پر دم کر لیا کریں۔ روزانہ یہ عمل جاری رکھیں انشاء اللہ حافظہ بہت جلد قوی ہو جائیگا۔ (سید سعادت علی و سید ابن علی)

(۲) رات کو جو وقت آسمان سے ستارہ ٹوٹے ہوئے دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَلْکَرِیْمِ الرَّحِیْمِ فَلَیْلَ یَوْمِ الدِّیْنِ اَیُّا کَ نَعْبُدُ وَاَیُّا کَ نَسْتَعِیْنُ مَہْدِیْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ تک پڑھے پھر زبان